

انجمن آصفیہ پاکستان

میڈیکل پالیسی - Medical Policy

A-119, Block No. 17, Federal
"B" Area, Karachi, Pakistan.
Phone: 0334-2984278
Email: asafia1958@gmail.com
<http://anjumaneasafia.org.pk>

Objective:

مقصد:

To provide assistance in getting better and quality medical treatment for the Asafia Bradari (Society).

آصفیہ برادری (سوسائٹی) کے لئے بہتر اور معیاری صحت کی سہولیات کو حاصل کرنے میں معاونت کرنا۔

Scope:

دائرہ کار:

This policy is applicable on all the members of Anjuman-e-Asafia and their immediate family.

یہ پالیسی انجمن آصفیہ کے تمام ممبر ان اور ان کے اہل و عیال پر لاگو ہے۔

Policy:

پالیسی:

A. Hospitalization Support:

-A ہسپتال کے اخراجات میں معاونت:

1. AAP will arrange Medical Insurance for its interested members from reliable service providers for the support in hospitalization expenses. AAP will try to get best discounted packages for individuals as well as for their immediate family. All members of society under the age of 59 years will be eligible to apply for this policy by paying its cost which will be announced every year ~~in the month of May~~. This insurance policy will be applicable for one year and will be renewed with consent of applicant.

1- سوسائٹی اپنے خواہشمند اراکین کے لیے ہسپتال میں داخلے کے اخراجات میں معاونت کے لیے قابل اعتماد انشورنس کمپنی سے میڈیکل انشورنس کا انتظام کرے گا۔ انجمن ممبر ان کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے لیے بہترین رعایتی پیچ کا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ 59 سال سے کم عمر کے انجمن کے تمام ممبر ان اس پالیسی کی لگت ادا کر کے درخواست دینے کے اہل ہوں گے جس کا اعلان ہر سال ~~جنوری~~ میں کیا جائے گا۔ یہ انشورنس پالیسی ایک سال کے لیے لا گو ہو گی اور درخواست گزار کی رضامندی سے اس کی تجدید کی جائے گی۔

2. AAP will extend its support to the needy members of society and will provide the above medical insurance free of charge to them. The request for this support may be applied by filling the relevant column of main Application Form.

2- انجمن اپنے ضرورت مند اراکین کی مدد کرے گی اور انہیں مندرجہ بالا طبی یہ مفت فراہم کرے گی۔ اس سپورٹ کی درخواست میں درخواست فارم کے متعلقہ کالم کو پر کر کے دی جائیں گے۔

3. In case any member who is not included in the above policy and needed emergency medical treatment which requires hospitalization at any point of time, AAP will provide the actual sum or



MUHAMMAD ASIF M. A.
ABDUL RABHIMAII - A. Return
Baloch nizg. fm
10/10/2018

Rs. 10,000/- (whichever is lower) after providing relevant receipts. This support will be given only once a year. This will be applicable to all the members irrespective of their age.

3- اگر کوئی ممبر جو مدد کو رہ پالیسی میں شامل نہیں ہے اور اسے ہنگامی طبی علاج کی ضرورت ہے جس کے لیے اسپتال میں داخل ہوا ہے، ابھن اس کو اصل رقم یا 10,000 روپے (جو بھی کم ہو) متعلقہ رسیدیں فراہم کرنے کے بعد ہے گی۔ یہ امداد سال میں صرف ایک بار دی جائے گی۔ یہ تمام ممبران پر لا گو ہو گا چاہے ان کی عمر کچھ بھی ہو۔

B. OPD (Out Patient) Support:

B- اوبی ڈی (ہسپتال میں داخلے کے بغیر) کی امداد:

4. The amount of support is as follows:

4. AAP will also provide emergency OPD (Non-Hospitalized patients) support to the needy members as per actual or Rs. 3,000/- (whichever is lower). This includes fees of Doctor, medicines and laboratory tests. All original receipts to be submitted along with application form to avail this facility. Any needy family can avail this support maximum of 4 times per year and maximum yearly limit is Rs. 10,000/- per family in a calendar year.

4. ابھن ضرورت مند ممبروں کو ہنگامی OPD (ہسپتال میں نہ داخل ہوئے مرضیوں) کی مدد بھی فراہم کرے گی جس کی حد 3,000 یا اصل اخراجات (جو بھی کم ہو)۔ اس میں ڈاکٹر کی فیس، ادویات اور لیبارٹری ٹیسٹ شامل ہیں۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمام اصل رسیدیں درخواست فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں۔ کوئی بھی ضرورت مند خاندان سال میں زیادہ سے زیادہ 4 بار اس امداد سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ سالانہ حد فی خاندان ایک کیلنڈر سال میں 10000 روپے ہے۔

5. AAP will also try to liaison with nearby reliable Laboratories to give support of discounted lab tests for all members of society.

5. ابھن اپنے تمام ممبران کے لیے رعایتی لیبارٹری ٹیسٹوں میں تعاون فراہم کرنے کے لیے قریبی قابل اعتماد لیبارٹریز سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی۔

6. In case where AAP will not be able to support any member due to the above assigned limits, AAP will try to arrange donors for the needy family who can directly support them without involvement of AAP.

6. ایسی صورت میں جہاں ابھن مندرجہ بالا تفویض کر دہ حدود کی وجہ سے کسی رکن کی مدد نہیں کر سکے گی، اس صورت میں ضرورت مند خاندان کے لئے عطیہ و ہندگان کا بندوبست کرنے کی کوشش کرے گی جو ابھن کی شمولیت کے بغیر براہ راست ان کی مدد کر سکیں۔

7. Above policy is not applicable for the support in case of delivery, dental treatments or any other type of cosmetic treatment.

7- اپر دی گئی پالیسی ڈیلیوری (بچوں کی پیدائش)، دانتوں کے علاج یا کسی اور قسم کے کامیک علاج کی صورت میں معاونت کے لیے قابل اطلاق نہیں ہے

ABDUL RASHIDAIN - A. Rehman
Bal - ۱۹۷۷ء



Procedure for getting Financial Assistance:

مالی اعانت حاصل کرنے کا طریقہ کار:

1. Application form will be available at AAP Offices and on AAP Website.

۱۔ درخواست فارم انجمن کے دفاتر اور انجمن کی ویب سائٹ پر درستیاب ہو گا۔

2. Applicant will submit completed form along with documents mentioned on the application form. The form includes an undertaking showing that they really need financial assistance from society and no other reasonable financial source is available to cater the needs. If the form is already submitted for any other kind of support, then only the relevant portion for medical treatment may be filled.

۲۔ درخواست وہندہ مکمل فارم بمعہ تمام دستاویزات جو فارم پر درج ہیں انجمن کے دفتر میں جمع کروائیں گے۔ فارم میں اقرار نامہ شامل ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں واقعی مالی مدد کی ضرورت ہے اور ضروریات پوری کرنے کے لئے کوئی دوسرا معقول مالی وسیلہ درستیاب نہیں ہے۔ اگر فارم پہلے سے کسی اور مقصد کے لیے جمع کیا جاچکا ہے تو صرف متعلقہ کالم پر کیا جائے گا۔


3. Medical Committee will check the application and will interview the applicant and will decide on merit basis according to the policy described above. Any two members of the Medical committee can approve the financial assistance.

۳۔ میڈیکل کمیٹی درخواست کی جائیج کرے گی اور امڑیوں کے مطابق میراث کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی۔ میڈیکل کمیٹی کے کوئی بھی دو ممبر ان مالی مدد کی منظوری دے سکتے ہیں۔

4. Applicants will submit the disbursement form along with original receipt of expenses and other charges. No advance payment or any other charges will be given. Disbursement of payment will only be made within 2 months time mentioned on the receipt. More than 2 months old receipts will not be entertained. Disbursement form is available at website of AAP and may also be taken from the office of AAP.

۵۔ درخواست وہندگان مالی مدد لینے کے لیے وصولی کا فارم بمعہ اخراجات کی اصل رسیدیں انجمن میں جمع کریں گے جس کی ان کو ادائیگی کر دی جائے گی۔ کسی بھی قسم کی پیشگوئی اداگی نہیں کی جائے گی۔ اخراجات کی اداگی زیادہ سے زیادہ 2 ماہ تک کی پرانی رسیدوں پر کی جائے گی۔ 2 ماہ سے زیادہ پرانی رسیدوں پر کوئی اداگی نہیں ہو گی۔ وصولی کا فارم انجمن کی ویب سائٹ اور انجمن کے دفتر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

Prepared By:



Mansoor Ahmed
(Vice President)



Approved By:



Saleem Mirza
(President)



Endorsed By: (AAP Members)

MUHAMMAD ASIF - M. Afzal
Salim Mirza
ABDUL REHMAN A. Rehman

Date of Approval

21-May-2023

